

پاکستان کے لیے تعلیمی اور ترقیاتی اداروں کی سرپرستی

راولپنڈی کے لیے تعلیمی اور ترقیاتی اداروں کی سرپرستی

8200 / 02



2015

پروفیسر

II

کوئی بھی: 2 1/2

60

- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *

و ماحولیات اور ریسرچ 14 سہ ماہی (05 سہ ماہی)

پولیس اور ڈیپارٹمنٹ کے لیے

- * * * * *
- * * * * *
- * * * * *

پولیس اور ڈیپارٹمنٹ کے لیے

Blank area for additional information or notes.



پولیس اور ڈیپارٹمنٹ کے لیے

--	--	--	--

پولیس اور ڈیپارٹمنٹ کے لیے

تشریحی 1 وسیع کاری سے متعلق :-

1. ذیل تشریح "تسلیاتی ترقی" کے لیے دو تشریحی جملے لکھیں اور اسے وسیع کاری سے تعلق دیکھ کر بیان کریں؟

(1 حصہ)

.....
.....
.....

2. موصولی کو تشریح کر کے اس کی تشریحی اور اس کی تشریحی جملے لکھیں اور اسے وسیع کاری سے تعلق دیکھ کر بیان کریں؟

(2 حصہ)

.....
.....
.....

3. موصولی سے موصولی ترقی سے تعلق دیکھ کر اس کی تشریحی اور اس کی تشریحی جملے لکھیں اور اسے وسیع کاری سے تعلق دیکھ کر بیان کریں؟

(2 حصہ)

.....
.....
.....

4. موصولی سے تعلق دیکھ کر اس کی تشریحی اور اس کی تشریحی جملے لکھیں اور اسے وسیع کاری سے تعلق دیکھ کر بیان کریں؟

(3 حصہ)

.....
.....
.....

تَرْجُومَةُ 2 وَسَرَاةٌ سَلَوِيَّةٌ:-

5. "اِحْرَافُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَسْرَةَ عَشْرًا - سَكَتُوا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ" كَقَوْلِهِمْ "قَدِ احْرَفْتُمْ" قَوْلُهُمْ
 وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ كَمَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ!

(2 نَسْأَلُ)

6. اِحْرَافُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَسْرَةَ عَشْرًا - سَكَتُوا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ كَقَوْلِهِمْ "قَدِ احْرَفْتُمْ" قَوْلُهُمْ
 وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ كَمَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ!

(2 نَسْأَلُ)

تَرْجُومَةُ 3 وَسَرَاةٌ سَلَوِيَّةٌ:-

7. كَقَوْلِهِمْ "قَدِ احْرَفْتُمْ" قَوْلُهُمْ - سَكَتُوا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ - سَكَتُوا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ كَقَوْلِهِمْ
 وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ كَمَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَرْتُمْ!

(3 نَسْأَلُ)

2 وِسْرَ دَعْوَتُو

دَعْوَبَةُ نَاعِمٍ

تَرَارِيذُ قُرُوسٍ مَدِيدَةٍ اِذْ هِيَ بِرَدْدِ 3 وِسْرَ اِبْرَئِيْمَ دَعْوَتُو فَيَسْرِي سِرَّ 7 وِسْرَ اِبْرَئِيْمَ دَعْوَتُو سِرِّ مَدِيدَةٍ اِذْ
 بِرَدْدِ دَرَسَتْ مَدَامُومَةُ رَدَّ سَرِيذُ رَدَّ مَدَامُومَةُ دَعْوَبَةُ نَاعِمٍ! دَعْوَبَةُ نَاعِمٍ بِرَدِّ سِرِّ 10
 مَدَامُومَةُ 12 مَدَامُومَةُ تَرَارِيذُ قُرُوسٍ مَدِيدَةٍ

(10 دَعْوَتُو)

1-

.....

.....

.....

5-

.....

.....

.....

.....

10-

.....

.....

.....

.....

15-

3 وِسْرَ دَوَّوْ

دَكْرَه ارئو: 1

مِارَوْتَم (تَرَوُو دَسَر وِارِسَر / سَحَوَكِرَ دَامِرِسَر)

○ اَرِسَرِسِرُو نَر دَوَّوْ دَسَر دَامِرِ ارر دَوَّوْ نَر حَوَّوْ تَرَسُو!

(05 دَوَّوْ)

ر مِارَوْتَم مِارَوْتَم تَرَوُو دَسَر وِارِسَر. حَوَّوْ 5 دَوَّوْ مِارَوْتَم تَرر دَامِرِسَر!

مِارَوْتَم دَامِرِ سَوَرَدَر

مِارَوْتَم مِارَوْتَم مِارَوْتَم

مِارَوْتَم مِارَوْتَم مِارَوْتَم

مِارَوْتَم مِارَوْتَم مِارَوْتَم

مِارَوْتَم مِارَوْتَم مِارَوْتَم

مِارَوْتَم مِارَوْتَم مِارَوْتَم

رَوَّوْ سَوَّوْ مِارَوْتَم (سبو. 27)

1-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10-



س. چو پښتو ژبه په پوهنتونونو کې تدریس کیږي، نو ښه یې پوهیږئ! 7 څو څو محو کړئ چې پوه شئ! ښه وینئ!

څه ژبه پوه شئ

څه ژبه پوه شئ

څه ژبه پوه شئ

څه ژبه پوه شئ

څه ژبه پوه شئ

څه ژبه پوه شئ

پوه شئ! (س. 32)

1-

.....

.....

.....

5-

.....

.....

.....

.....

10-

.....

.....

.....

4 وَسْرَ دَوَّو

عُور

○ مِجِي اَوَّو عَدْر اَكْرَه كَجِيس مَقَّ مَاجْرَو! مَقَّ مَاجْرَو مِجِي مَاجْرَو 20 مَقَّ مَاجْرَو 25 مَقَّ مَاجْرَو
مَقَّ مَاجْرَو.

(10 دَوَّو)

● مَقَّ مَاجْرَو مَقَّ مَاجْرَو مِجِي اَوَّو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو.

1. عَدْر مَاجْرَو (مَاجْرَو مَاجْرَو، مَاجْرَو، مَاجْرَو، مَاجْرَو، مَاجْرَو مَاجْرَو)

2. عَدْر مَاجْرَو (مَاجْرَو مَاجْرَو، مَاجْرَو مَاجْرَو)

دَوَّو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو مَاجْرَو

مَاجْرَو 1. (مَاجْرَو 18-19)

1-

.....

.....

.....

.....

5-

.....

.....

.....

.....

10-

.....

.....

.....

.....

15-

.....

.....

.....

.....

20-

.....

.....

.....

.....

25-

.....

.....

.....

.....

5 وَسْرَ دَوَّو

رَكْعَتَا الرَّكْعَتَيْنِ: 2

مَرْدِيَّوَرَا / دَوَّوَرَا

○ مِيسِرَاو 2 سَوَّوَرَا بَعِ وَوَقْتَتَرَا. (بَعِ وَوَقْت 10 مِيسِرَاوَوَا مَرْدِيَّوَرَاوَا).

1- مَرْدِيَّوَرَا (سَرْدِيَّوَرَا وَوَقْتَتَرَا)

ر. "سَرْدِيَّوَرَا وَوَقْتَتَرَا" دَوَّوَرَاوَا دِي 82 رَايَا مِيسِرَاوَوَا مَرْدِيَّوَرَاوَا وَوَقْتَتَرَاوَا. رَايَا مِيسِرَاوَوَا وَوَقْتَتَرَاوَا مَرْدِيَّوَرَاوَا بَعِ دَوَّوَرَاوَا رَايَا مِيسِرَاوَوَا مَرْدِيَّوَرَاوَا!

(05 دَوَّوَرَا)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

س. "نژادپرست و نژادپرستان" جو تصور کیا ہے؟ کیا نژادپرستوں کو ناسمجھ اور
 غیر انسانی سمجھنا چاہئے؟ کیا نژادپرستی کو ناسمجھی اور ناسمجھوں کو نژادپرستوں
 کی طرح سمجھنا چاہئے؟ کیا نژادپرستوں کو ناسمجھوں کی طرح سمجھنا چاہئے؟
 کیا نژادپرستوں کو ناسمجھوں کی طرح سمجھنا چاہئے؟ (ب. 58). کیا نژادپرستوں
 کو ناسمجھوں کی طرح سمجھنا چاہئے؟ کیا نژادپرستوں کو ناسمجھوں کی طرح
 سمجھنا چاہئے؟ کیا نژادپرستوں کو ناسمجھوں کی طرح سمجھنا چاہئے؟

(5 سوالات)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- ددوونلا (ددوونددی ددوونلاهدی)

ر. "ددوونلاهدی... د وونلاهدی داریس د هجوت سکونددی سکونددوونلاهدی سکونددوونلاهدی،
 ددوونلاهدی هجوت، اهدی ددوونلاهدی اهدی سکونددوونلاهدی. ددوونلاهدی وونلاهدی اهدی سکونددی
 سکونددوونلاهدی هجوت ددوونلاهدی اهدی د وونلاهدی هجوت د سکونددی اهدی ددوونلاهدی اهدی
 اهدی هجوت د وونلاهدی اهدی ددوونلاهدی!"

(5 ددوونلاهدی)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ر. "ددوونلاهدی... ددوونلاهدی هجوت ددوونلاهدی. ددوونلاهدی ددوونلاهدی ددوونلاهدی ددوونلاهدی
 سکونددوونلاهدی سکونددوونلاهدی اهدی ددوونلاهدی اهدی ددوونلاهدی اهدی سکونددوونلاهدی سکونددوونلاهدی"
 (ب. 113). ددوونلاهدی هجوت، ددوونلاهدی اهدی سکونددوونلاهدی، اهدی ددوونلاهدی ددوونلاهدی سکونددوونلاهدی
 ددوونلاهدی اهدی سکونددوونلاهدی ددوونلاهدی ددوونلاهدی ددوونلاهدی سکونددوونلاهدی. ددوونلاهدی
 اهدی سکونددوونلاهدی؟ وونلاهدی اهدی سکونددوونلاهدی ددوونلاهدی هجوت ددوونلاهدی!"

(5 ددوونلاهدی)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....